

سُنْنَرِی گُنبد (بلوچی)



شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بیال
محمد الیاس عطّار قادری رضوی
داماً بِرَحْمَةِ اللّٰهِ العَظِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ يَسِّرْ اللّٰهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

کتاب وانغی دعا

دینی یا اسلامی کتاب و انفاس اپیشور کے دعاونے ثاہر چیز وانے شمارا یاد بہی **اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا
حِكْمَتَكَ وَانْشُئْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَ مئے سرا علم و حکمتے دروازہ تھے کبکن اور مئے سراوتی رحمت بہ نازل کن۔ اے عظمت و بزرگی والارب۔ (مستظرف ج ۱ ص ۴۰ دارالقریر و د)



(نوٹ: اول آخر یک یک واری درود پاک وانے)

رسالہ نام: سمندری گنبد

اویس چھاپہ: صفر المظفر ۱۴۳۳ھ، نومبر 2015ع

تعداد

ناشر: مکتبۃ المدینہ، عالی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی۔

مدنی التوجیہ: کوئی بہ ادارہ اے کتاب چاپ کے اجازت نیستیں

کتاب خرید کنوخ توجہ فرمائیں

کتاب، چھاپی تھا اگا مزائیں غلطی، بیتا یا صفحات کے بیس یا باستڈنگ تھا صفحات غلط مانا تگاں تھا شما
مکتبۃ المدینہ گوں رابطہ فرمائیں۔

سمندری گنبد

اے رسالہ "سمندری گنبد" شیخ طریقت، امیر احلست بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ اردو زبانء تھا است۔

مجلس شعبہ تراجم (دعوتِ اسلامی) اے رسالہ آسان بلوچی زبان تھا کنگیں باز شریں کو شش کرت۔ اگاء اے ترجمہ تھا یا کمپوزنگ تھا غلطی عربی شما مجلس تراجمہ ضرور بہ آگاہ کئے، اور ثواب حقدار بیے۔

پیشکش: مجلس تراجم (دعوتِ اسلامی)

رابطہ واسطہ

مکتب مجلس تراجم (دعوتِ اسلامی) عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گراں کا ہے
سیزی منڈی باب المدینہ کراچی۔

UAN: ☎ +92-21-111-26-92-Ext. 1262

Email: 📩 translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سمندري گنبد*

گزارش: شیطان لاکھ سستی دلائیکنی اے بیان، مکمل وانے **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ**
شمیے دل خوف، خدا یا پچے زیر وزبربی اور شیطان ناکام و نامرادبی۔

زور، چے درود، پاک و نوک مغفرت بوت

یک بزرگ، یک مرد، آدم، وفات، رند واب، تہادیسا توء جست (پول) کاں کہ
مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ یعنی اللہ عزوجل ترا گوں چے معاملہ کت؟ جواب داں کہ اللہ عزوجل منا
 معاف کت۔ بزرگ جست (پول) کاں کہ تو پچے وجہ، معاف کنگ بوت، جواب داں کہ
 نا یک محدث صاحب، کرّاحدیث پاک لکھاں اور ونتا جب ایا نبی، پاک سردار، دو جہاں
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرا درود، پاک و نتا تو مابی بلند آواز، گوں زور، چے درود پاک
 و نتا درود پاک، برکت، چے اللہ عزوجل ہے درست، اُنی (کلائی) بخشش و مغفرت کت۔

(اقوان البدیع، ص 254 موسی الریان بیروت)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

اللہ عزوجل حضرت سیدنا سلیمان علی توبیتہ و علیہ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ سرا و ہی نازل کت کہ
 سمندر کرّا برو اوڑا منی قدرت، نظارہ بیکاں۔ حضرت سلیمان علی توبیتہ و علیہ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

* اے بیان امیر احلست دامش بترکا تھے **الْعَالِيَّةِ** تبلیغ قرآن و سنت، عالمی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، ہفت روزہ اجتماع تھا (ارجب المرجب ۱۰-۷-۱۸۳۱) کت کی اور اضافہ گوں لکھائی تھا حاضریں۔ مجلس مکتبۃ المدینہ

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : کے میں سر ایک واری درود پاک و انی اللہ ہماں سرا دار حمت نازیل کئے گئے (مسلم)

وَتَرِیدُنِی هَمْرَاہ سمندر کنارہ رُو بُلے او دا اچ چزبی جانہے اچیے رند سیدنا سلیمان یک جن حکم داں سمندر تھا برو اور او دے حال و احوال بیار بدے۔ بُلے، جن سمندر تھا شست نکاں اور نہ ہی کوئی خاص چڑا شیا (ملسا) جا کئے۔ ایشیے رند سیدنا سلیمان اشیا پے زیادہ طاقتوں جن حکم داں، جن پیشتر جن اے پے گنبدِ سمندرے تھا رو بُلے اے جن بی کوئی خاص خبر نیارے۔ اشیائی رند سلیمان عَلَى تَبَّاعَاتِهِ الْمُلْكُولُونَ وَالسَّلَامُ وَتَرِیدُنِی خاص وزیر حضرت آصف بن برخیا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حکم داں، کم اے ساعت، رند یک والی شان کافوری چار دروازہ والا اپسید، سمندری گنبد، سیدنا سلیمان، خدمت، اقدس، پیش کنائے گنبد، یک دروازہ موتی، دو گنی دروازہ یا قوت، سہی دروازہ ہیراء اور چہار می دروازہ زمر دی۔ چہار دروازہ پیچ نبوت۔ اشی باوجود سمندرے آف یک قطرہ بہ گنبد تھا نہ شست۔ سمندری گنبد تھا یک خوبصورت نوجوان وَتَرِیدُنِی نماز، دل گوش بی۔ جب نوجوان وَتَرِیدُنِی فارغ بوت ایسے رند حضرت سلیمان عَلَيْهِ السَّلَامُ سلام کرت اور نوجوان پے سمندری گنبد متعلق چست (پول) و پرس کرت۔ تو نوجوان گھٹی کہ! یا بی اللہ! منی پت یک نیم جان معذور اور مات چمال پے شکست (یعنی) کور بوت۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ! ماں ۷ سال تک وَتَرِیدُنِی مات و پت خوب خدمت و خیال داری کرت۔ خدمت، وجہ منی مات وفات پے پیشتر مناء نیک دعا کرت کہ! یا اللہ! منی، اولاد، مز نیں خیر عافین والا عمر بیدے۔ اور منی پت بوقت وفات مناء دعا کرت کہ یا اللہ! منی اولاد، ھمے رنگے ہند ا العباد مشغول کن کہ شیطان اشیا نگ نہ کن۔ والد مرحوم تدفین رند جب ماء ساحل سمندر آنکھاں تھے من یک سمندری گنبد دیسا من گنبد تھا داخل بیسغاں کہ انگے یک فرشتہ،

فرمان مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: کے میں سر ارواد انگ شمشتاہایاں جنت و رستہ ششتم۔ (طبرانی)

حاضر بیو گنبد زوری سمندرے تھا رویلا دا حضرت سلیمان ﷺ چست پرسا
 پنجواں گشی کہ ما حضرت سیدنا ابراہیم ﷺ مبارک زمانہ پچ موجود ادا عبادت
 مصروف نجوا حضرت سلیمان ﷺ انداز کت کہ نجوا دو ہزار سال گنبد تھا
 گوازینت بلے انگاتک نجوان ورناء اور اشیے یک میدے ٹالے (بوڑھی) اپسید ہے۔ ورگ
 چرگ متعلق گشی کہ مدام یک سبز بال کپوت (مرگ) وتنی دپ تھا یک زدہ رنگ چڑھ کاری
 مائیا اور اس ای تھا دنیا نعمت نی درست (کل) لذت موجود۔ ایسے ورگ پچ منی، نان،
 آپ درست (کل) طلب پورا بیاں اشیے، کوچنڈگ، ترس، خوف، اجنیت، وحشت وغیرے
 درست (کل) چڑھ پچ، مادور۔ درست قصہ عرند نجوان خواہش مطابق حضرت سیدنا
 سلیمان ﷺ حکم مطابق حضرت سیدنا آصف برخیاء گنبد زیری سمندرے تھا زیمنی
 میں داں گئے۔ اشیے رند حضرت سلیمان ﷺ فرمائی کہ اے مردوں!
 اللہ عزوجل شے سرار حم و کرم بیکاں شہادت (دیسا) کہ مات و پت نیک دعا چکھ پے جلدی قبول
 بی! اور شہادت، پت نافرمانی، بے ادب پچ پچے۔ (روض الریاضین، ص ۲۳۳ ملخچا، دارالكتب العلمیہ بیروت)
 اللہ وتنی خاص رحمت پچ ایسا سرجم، برجم بیکاں ایسے صدقہ اللہ عزوجل ہے مفتر
 بیکاں۔ امین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

محترم اسلامی برادران! معلوم ہت کہ مات پت خدمت مز نیں سعادت گپ اگا ایاں
 خوش کئے اور نیک دعا بکنا تو ہے شے بیڑا پاربی۔ بیاۓ یمہ وڑود یک قصہ گوش دارے۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: کے میں سر امن دادواری اور شام دادواری درود و اپنی اشیا قیمت دروچ میں شفاعت ملی۔ (مجمع الزوائد)

زخمی مژدغان

حضرت سیدنا بازیزید بسطامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ زیستان سخت سردی شپر یک رندے منی مات، مناچے آپ لوٹے مگلاس، آپ چھپے پر کنال کایا ہے ساعت، منی مات واب کپسے۔ اور مناء گپ شر نلگے کہ ماوتی مات، واب چھپے یاد بینا۔ مگلاس، آپ، گول دیر تک وقی مات، سرن اشان انتظار کرت۔

بعض انتظار کنال بلے مات، چم پیچ بنا۔ از گلیستر سردی، وجہ آپ، یک دو قطرہ منی لگ، (مژدغان) سراپیچال کم، ساعت، رندے قطرہ برف بنا۔ بہر حال جب منی مات واب، چھپے جاسری جا آپ، مگلاس، وقی مات، خدمت پیش کنال جب منی مات آپ، زوری تو برف بیاگے وجہ، پوست جدا بی اور خون (ہون) در آئیگ، لگی جب منی مات دست، گندی تو جست (پول) کاں کہ، چھپے بوت دست، چھپے خون (ہون) پر چھپے ریچاگئے؟ مابھے قصہ، وقی مات، گشاں۔ تو منی مات وقی دست، بڑا کاں، وڑا دعا کاں کہ یا اللہ! ماوتی، اولاد، چھپے خوش و راضی ہوں یا اللہ! تو بی اشیا چھپے راضی بودے۔ (نزہۃ المجال، ج ۱، ص ۲۷، دارالكتب العلییہ بیروت)

اللہ وقی خاص رحمت، چھپے ایسا سر جم بر جم بیکاں ایسے صدقہ اللہ عزوجل میں مغفرت بیکاں

صلوٰۃ علی الحبیب!

هر روح جنت، چانٹ، بچکے

ہماخوش نصیب، مات و پت، حیات، ضروری، کہ ہر روح کم از کم یک رندے مات و پت، دستاں پازال، بچکے مات و پت، ادب، احترام بعض مز نیں سعادت، گپ، اگاکے بیزاں تو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کہ: **الجَنَّةُ تَحْتُ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ** یعنی جنت مات، اپادانی (شیر ایکیں) چیراں۔ (مسند الشحاد، ج ۱، ص ۱۰۲، حدیث ۱۱۹)

یعنی کہ مات و پت، ذریعہ،

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ : کے کرامیں ذکر ہیت اور ایسا میں سر اور دنہ و انتا شایماً گوں جھاکت۔
(عبد الرزاق)

دعوتِ اسلامیٰ اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مطبوعہ ۳۱۲ صفحات، ہبھار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۸۸ ہبھار است، کہ مات، پازال چکت کئے۔ حدیث ہبھار است کہ ہما کساوی مات، پاد چکتاں گویا کہ ایسا جنت، دروازہ (یعنی چانٹ) چکت۔
(در مختار، ج ۹، ص ۷۰۷، دار المعرفۃ بیروت)

صَلَّوَا عَلَى الْحَبِيبِ!

ماتِ دِیماً آوازِ برزکنگاچے دو غلام آزاد کت

مات، و پت، دورا شہ گندی تھے تعظیماً کڑوبی بھکی، برز آواز، گپ جنگ، پچ بگ لوثی۔
جب بی شے مات، پت تو ارجناں فوراً حاضر بیگ لوثی۔ تمیز و ادب، تہامات و پت گوں گیا
جنگ لوثی آواز، مات و پت، آواز، پچ ہر وقت جال کنگ لوثی۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مات، جب تو اک کو تو جواب دیگے وقت
حضرت سیدنا عبد اللہ بن عون حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ آواز و تی مات، آواز، پچ کم، بر زبی توءے بے ادبی وجہ، پچے ع بزرگ دو غلام آزاد کت۔ (حلیۃ الاولیاء، ج ۳، ق ۲۵، ۳۰۳، دار الکتب الحلبیہ بیروت)

بار بار حج، مبرور ثواب کمائیں و

سُبْحَانَ اللَّهِ! ہے بزرگانِ دین حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ مات و پت، چکا قدر کنوک بو تگاں چکا عظیم مدنی سوچ و فکر بوت اتی، وقت دو غلام ما شما کجاچے بیارے! بلے افسوس کہ اگاہ وڑے معاملہ میئے تو ما شاغلام تو مز نیں گپ، راہ خدا یا کیک مرغ اور ایسے قربان کنگاچے بی ترس، یعنی کہ ہے دل، تہامات و پت محبت ادب و احترام، حقیقی جذبہ ختم، اللہ عَزَّوجَلَّ مارامت و پت، اھمیت ادب و احترام توفیق بدال۔

امین بِحَجَّةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّی اللہُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : کے میں سراج عروج درود و امن فیما روجا اشی شفاعت کنا۔
(کنز اعمال)

محترم اسلامی بر اتاب! بیانے بغیر زرعِ مفت ثوابِ خزانہ زورے۔ خوب ہمدردی، پیار، محبت، پت، و پت، زیارت یکنے۔ بعض کہ وقی مات و پت، محبت و رحم و کرم، گول، بچار، ہ حدیث، تھاء چارگ، و قی مہمیت، سرکار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرمائے رحمت نشان، کہ جب اولاد و قی مات و پت، نیگا محبت و رحمت نگاہ گوں چار، تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ، بدله ایے واسطہ حج، مبرور یعنی مقبول حج، ثواب لکھی۔ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ جست (پول) کت کہ اگا کے صد ۱۰۰ ابیر محبت، نگاہ بچاری! نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرمائی کہ تَعَمَّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَنْتَيْبُ اگا کے وقی مات و پت، نیگا صدام صد ۱۰۰ ابیر بچاری، تو ایا ہے وڑاء صد ۱۰۰ ابیر مقبول حج، ثواب ملی۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
جنتِ سنگت

حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی تسبیح و علیہ الصلوٰۃ والسلام یک بیر پرورد گار عَزَّ وَ جَلَ ع دربارے عرض کاں کہ یارب غفار عَزَّ وَ جَلَ منا و قی جنت، سنگت، پیش پدار اللہ عَزَّ وَ جَلَ فرمائی کہ فلاں شہر عَبْر و او دایک پس کشوک، ہما تھی جنت، سنگت، ہے وڑاء سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی تسبیح و علیہ الصلوٰۃ والسلام اوداء پس مہمان، حیثیت، حضرت موسیٰ علی تسبیح و علیہ الصلوٰۃ والسلام، مہمان نوازی کت۔ جب نان ورگے واسطہ درست ندا تو، پس کشوک مز نیں ٹوکری، و قی کرا اکاں اور، دو دپار (زمب) ٹوکری، تھاماں کاں دو دپار و ت وا۔ کم، ساعت، رند دروازہ تو اربی، پس کشوک چارگ، واسطہ یاد کئے تو حضرت موسیٰ ٹوکری، تھا چاری کہ یک ضعیف عمر، پیر زال اور یک پیر، مرد آدم نشت یاں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، چارگ، گوناں، دوئیں۔ بچنداں اور، موسیٰ علیہ السلام، نبی بیاگے شہادت یعنی گوانی دیاں! ایے رند،

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: میں سر اور دبازوں نے اے شاواسط طہارت اے۔ (ابو علی)

دوئیں وفات کناں۔ پس کشوک جب دوبارہ کئے ٹوکری ہہاوتی مات و پت مردگی حالت اء چاراء تو سمجھی کہ ۱۴ مہماں مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ دست بو سی یعنی دمت ۱۴ چکی اور گشی کہ تو اللہ ۱۴ نبی مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ زیارت و دیداء تھا موت نصیب بیکاں۔ وقت مات و پیت ۱۴ ناگہانی موت اء پے ماں اندازہ کت کہ تو ۱۴ نبی مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ ۱۴۔ پس کشوک مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ کہ منی مات مناچے ہر وحدے خوش بوت اور ننان ورگے رند منی حق اء ہے دعا کتا کہ! اے اللہ منی ۱۴ چکا جنت اء تھا مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ ۱۴ سگت بیکاں۔ حضرت مویٰ عَلَيْهِ السَّلَامٌ فرمائی کہ ترا مبارک بی کہ اللہ عَزَّوجَلَّ بہشت ۱۴ تھا ترا منی سگت کت۔ (نزہۃ الحجاء، ج ۱، ص ۲۷۷، دارالكتب العلمیہ بیروت) اللہ وقت خاص رحمت اء پے ایسا سرجم برجم بیکاں ایسے صدقۂ اللہ عَزَّوجَلَّ میے مغفرت بیکاں

مات و پت ۱۴ نافرمان را حیاتی اندر اسزا ملسا

محترم اسلامی برادرات! شادیسا کہ مات و پت ۱۴ دعا اولاد ۱۴ حق ۱۴ چکا جلدی قبول بی۔ ہے وڑاء اگاۓ نافرمانی ۱۴ وجہ وقت رنج ۱۴ دل اولاد ۱۴ بدعا بکنان تو اشانی بد دعای جلدی قبول بی ضروری ۱۴ کہ مات و پت ۱۴ ہر وقت خوش راضی بکنے۔ سرکار دو جہاں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمائی کہ مات و پت ۱۴ تھی جنت، دوزخ ۱۴۔ (انہ باج، ج ۳، ص ۸۷، حدیث ۲۷۲) مزید ارشاد فرمائی کہ اللہ عَزَّوجَلَّ بلوٹی تو درست گناہ اپنی سزا اپنی قیامت روچ ۱۴ واسطہ وقت کرا ایر بیکاں بلے مات و پت ۱۴ فرمائی ۱۴ سزا اولاد ۱۴ ہے حیاتی اندر ادا۔ (المترک للحاکم، ج ۵، ص ۲۱۷، حدیث ۳۵۷ دار المعرفۃ بیروت)

جواب ندیگے وجہ گنگ بوت

گنگ بی کہ یک مرد آدم ۱۴ ایسے مات تو اکاں بلے ۱۴ دیماچے جواب نداں تو اشیے مات بد دعا کاں اور اللہ عَزَّوجَلَّ حکم ۱۴ اپے گنگ بی۔ (برالدین للظرفی، ص ۹۷ موسیۃ الکتب الشفافیہ بیروت)

فرمَانِ مُصطفىٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شہرِ ہندابہ استے مکین سرا درودو دو نے شماے درود مناری۔ (بلرانی)

مات و پت بد دعا مذیاں تو سبری

محترم اسلامی برائیاں! شادیا کہ صرف مات پتء جواب نہ دیجے وجہ حیاتی تھاء گنگ بوت۔
اگاۓ قصہء تہامات و پتء نافرمانیء کنگء وجہ عبرتء ہزار طامنی پھل موجودء تو دوی نیمگا مات
و پت واسطہ بی غور و فکرء مقامء خصوصاً مات کہ ہر کسانی کسانی گپء تہاوی اولاد پت و بد دعا
کاں کدی موتء کدی برباد زندگیء۔ وڑے ماتء لوٹی کہ بد دعاء چے وقی پتء بیداری چے
خبر کہء ساعت قبولیتء ساعت زبان چے گشتنگے گپ یعنی پت و بد دعا اگا اللہ واقع قبول
بیکاں اور چکا جانی و مالی نقصان بی۔ وڑے صورتء حالء تہامات ہی زیادہ پریشان بی! الہرامات و
پت وقی اولادء صرف و صرف دعاء خیر بیکاں کہء زیادہ بہترے۔

مات و پت در ملکء چے تو اربیکاں تو آئیگ لوثی

دعوت اسلامیء قافلہ سنتء فی تربیتء خاطر ملک در ملک سفر اختیار کنگ بیک سعادت
ء گپء۔ خصوصاً در ملکء ۱۴۵۱ یا ۲۵ مہ او دادارگ بعض شرء گپء بلے اگاۓ سفرء بھے مات و
پت پریشان بیان توء صورتء سفر کنگ نلوٹی۔ چےء کہ دعوت اسلامیء مقصد وقی واہ واہ
کنگ بنے بلکہ اللہ عَزَّوجَلَّ ع رضا اور خوشنودی مقصدء اللہ عَزَّوجَلَّ ع رضا اور خوشنودی مات و
پتء رنج وزار کنگ چے حاصل نبی۔ کاروباری اسلامی برات بی مات و پتء واسطہ سفر
بیکناں اورء مسئلہ اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینۃ مطبوعہ کتاب بہار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۲۰۲
تھا استء کہ اگاچک در ملکء شتا اور مات و پت تو اربیکناں تو آیگ ضروریء خطء لکھگ راہ دا
یگ چے مات و پتء دل خوش نبی ہے وڑے مات و پتء اولادء حاجتء تو ضروریء کہء
چک یئے اور مات و پتء خدمتء بیکاں۔

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: کے میں سراہ مرتبہ درود و انت اللہ آئی سر اصدر حمت نازل کنت۔
(طرانی)

شیر خوار چکہ ٹوک کت

مات و پت جب تو ارجناں تو جواب دیگا دیر کنگ نلوٹی بعض مردم، معاملہ ہتا ہے پروائی
کننتے معاذ اللہ، لا پروائی گناہ ہی خیال کا۔ اگا بچار، تو نفل نماز، تہامات پت و قی بے خیال،
کسانی تو ارجناں تو ضروری، کہ ہما ساعت نماز، تہامات و پت، جواب دیگ لٹی۔ (بہار شریعت، ج،
ص ۳۸) رند نماز پداونگ واجب، ہما کس جو وقی مات پت، ایذیت و تکلیف داں بلا وجہ مات و
پت، تو جہ ندیگ یعنی No Lift بعض سخت گناہ کار، وڑے انسان جہنم، عذاب، حقدار،
محترم اسلامی بر اتاس! گوش دار، کہ مات، وقی یک خاص اہمیت، مرتبہ، مات، بد دعا
اولاد، زندگی نیست و نابود کت کا۔ ہے وڑے، اگامات غلطی، چ بد دعا بیکاں اور
ساعت قبولیت، بھی تو اولاد اور مات دوںکیں آزمائش و امتحان، تہامبلایاں۔

بخاری شریف، تہائیک اسرائیلی بزرگ، عبرتاک قصہ، وڑے، موجود، کہ سلطان دو جہاں
صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمانِ عبرت نشان، کہ بنی اسرائیل، جر تج نامی یک مرد آدم نماز
و گنگ، بوت، مرد آدم، مات اشیا تو ارجاں بلے، وقی مات، جواب نداں ہے گشی کہ ما وقی
نماز، بوانا کہ تھی گپ، گوش بداراں، جواب، چ اشیے مات وقی چک پٹ دی کاں کہ ما
اللہ عَزَّوجَلَّ منی، چک ہمسدیک موت مدعے جب تک بدکار، زنا کار زال، گوں اشیے واسطہ
کمپی۔ یعنی جب تک یک بدکار، دیم، گندی۔

اشیے رند انچوبی کہ یک روچ، جر تج وقی عبادت خانہ عبادت، مصروف بی۔ یک جنی آدم،
کئے اور گشی کہ ما جر تج، وقی راہ، کاراں بد نام، کنناں ہے وڑا، جنی آدم جر تج، گوں ابر، لگی
بلے جر تج اشیا تو جہ نداں۔ بلا آخر، زال یک پس چاروک، کر، رہ، وقی دست و دیم، سیاہ کاں۔

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : کے کرامیں ذکر میسا اور ایامیں سرا درود و احتمالہ ہام مردانی تہا کنجوس ترین امر دے۔ (ترغیب و تہیب)

ء پس چاروک ۽ پے یک چک پیدا بی۔ ۽ بد کار جنی آدم و تی ۽ حرام و ناجائز چک جر تج ۽ نام ۽ گوں جوڑینی یعنی کہ و تی گناہ انعام ۽ جر تج ۽ سرا جنت ۽۔ مالک جر تج ۽ کرء کئے عبادت خانہ ۽ پروشان نقصان دیاں زاہ بد کنایا ۽ بزرگ ۽ عبادت خانہ پے در کنایا۔ بے گناہی ثابت گنگے خاطر جر تج و ضوکت نماز ادا کرت ایے رندے بے زبان چک پے چست (پول) کاں کہ بگش تھی پت کئیں تو کئے چک ۽ چک جواب داں کہ ما یک پس چاروک ۽ چک۔ ۽ جواب ۽ رندے سے مالک شر مندہ بی جر تج ۽ گشاں کہ ما تھی ۽ عبادت خانہ ۽ بدلہ دی گیے یک تنگو عبادت خانہ جوڑ کنی؟۔ جر تج جواب داں مناوی ہمالگے یعنی (خاک) جوڑ کنگے عبادت خانہ لوٹی۔ (بخاری، ج: ۲، حدیث ۲۵۵، مسلم، ص: ۱۳۸۰، حدیث ۲۲۸۲، حدیث ۱۳۹)

صدقہ ﷺ میے مغفرت بیکاں

ماتِ خاطر گرمِ سنگِ نی سراروگ۔۔۔

مات و پت ۽ حق، ادب احترام ۽ کوئی حساب، شمار نیست ۽ اشاتی، ذمہ داری ۽ پے دست کنگ ہے وڑے یک صحابی رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۽ دربارہ عرض کاں کہ یک راہ ۽ سرا ہے وڑے ۽ گرم ۽ سنگ بو تگاں کہ اگا گوشت ۽ مکر ۽ ایسے سرا ایرینکے تو ۽ گوشت گرمی پچگل ۽ سراسوار کوتگ ہے گرم ۽ سنگ ۽ نی سرا اشش کلو میسر تک شنگاں پے ۽ وڑے ۽ ماوتی حق و فرائض ۽ پے فارغ بوتاں سر کار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض کاں کہ تھی مات ۽ تھی پیدا اش ۽ ساعت ۽ درد ۽ تکلیف دہ جھنکا برداشت کرت ۽ درد ۽ جھنکا نی یک جھنکے حق ۽ تو ادا کت کنئے۔ (لمجم الاصغر للطبراني، ج: ۱۰، ص: ۹۲، حدیث ۲۵۷)

برجم بیکاں ایسے صدقہ ﷺ میے مغفرت بیکاں

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم : ہامر دے پوزخاک ۲۷ تھا برو کہ ہماں کرائیں زکر بیت اور یا یمیں سرا درود نہ وانت (حکم)

اگا جنی آدمِ جاگاً مرد آدم چک پیدا بیکاں تو۔۔۔

محترم اسلامی براتاں! راست گپے مات اولادِ خاطر ہزار تکلیف مشقت برداشت کاں۔ خصوصاً چگلے ساعتءَ خطرناک دردِ انسانی احساس ہمامات کت کاں۔ اور اللہ مرد آدم واسطہ بعض آسانی پیدا کرت مرد آدم ز چگلی وڑے معاملہ چپے بعض دورِ امام الہست مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ السلام فتاویٰ رضویہ ج ۲، ص ۱۰۱ تھا فرمائی کہ مرد آدم ہے تعلق صرف و صرف لذت، عزت گوناء بلے جنی آدم ہزار مصیبت مشقت ہے دیم درگ کنگ بی۔ ۹ ماہ لاپے تھا چک خیال داری ندو نیاد ترو تاب، لوگ ہے تھا کارافی چست ایر بعض مشکل، مصیبت ہے ایسے رند پیدا کش وقت ہر جھنکا ہے تھا ندگی، موت ہے دیم دارگ۔ ہر اولاد پیدا کش ہرند مختلف قسم ہے درد جو نفاس ہے خون ہے خارج بیگ ہے وجہ جنی آدم جو تکلف دردے تھا شب و روچ گزاری تکلیف احساس صرف ہما جنی آدم کت کاں تکلیف ہے متعلق رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں

**حَمَلْتُهُ أُمَّةٌ كُرْهًا وَ وَضَعْتُهُ كُرْهًا وَ
لَا يُكْلِمُهُ وَ فَصِلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا**

ترجمہ کنز الایمان: ایسے مات ہے چک و تی
لاپے تھا سنبھالتا درد ہے تھا اور پیدا کرتے
تکلیف ہے چکے۔ چک ہے چست، ایر کنگ اور
اشیے شیرے بیاد بیگ ۳۰ ماہ ہے تھا۔

پارہ ۲۷ الاحتفاف: ۱۰

ہر اولاد پیدا کش ہما جنی آدم ہے کم ہے کم ۳ سال تکلیف، مشقت برداشت کنگ پڑے صبر و برداشت صرف جنی آدم ہے تھا رب تعالیٰ پیدا کرت۔ اگا ہے وڑا مرد آدم ہے لاپے تھا چے مشک ہے یک کسانے چک پیدا بی تو ہے ندگی بھر ہتی گوش ہے داری توبہ کن۔

فتاویٰ رضویہ ج ۲، ص ۱۰۱ ارشاد فرمائیں مرن کرز الایمان لاہور

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : کے میں سراجِ حمد روح دو صد مرتبہ درود و اتنا اشیعے دو صد سالہ گناہ معاف یست۔ (کنز العمال)

چکءنی مات ہمدردی محبتِ حقداری

محترم اسلامی برادرات! اعلیٰ حضرت ﷺ مبارک فتویٰ پے ماتِ حبیث معلوم بیسا توءِ حبیثت، گوناں چکءنی مات یعنی لوگی عربی مرتبہ و اہمیت ظاہر بیسا۔ لوگ وجاء لوٹی کہ حمل، ماہ جو بعض مشقت و تکلیف، ماہ نگ بیاں، ماہ ہنی، ہہا لوگی، سرا بعض توجہ دیگ لوٹی لوگ، کار، ہنی تہادست مد کنگ لوٹی، گران، کار زورگ نلوٹی، اکل و ھوکل بالخصوص ذہنی دباؤ دلی صدمہ (TENSION)، دیگ نلوٹی۔ العرض کہ ہماج دتک دستِ بت کس چکءنی مات، ذہنی و جسمانی سکون، آرام دیگ لوٹی۔ ہر وحدے چک زورے پیار، محبت کئے ایسے گوناں چک نی۔ دی، نیکابی محبت و رحم، نگاہ کنگ لوٹی۔ دل، بہلائیگ، لیسوک آرگ، ہنی چک نی مات زندگی، موت، گوں جنگ اور سخت تکلیف، درد اور مشقت برداشت کتے۔

شیر و رینگ، شرعی مسئلہ

اعلیٰ حضرت ﷺ مبارک فتویٰ تہا آیت، مدارک، تہائیگ بی کہ چک، شیر ۳۰ ماہ تک است، اشیٰ تعلق شیر رشتہ اور حرمت نکاح گوں است۔ بھری سی یعنی اسلامی حساب، مطابق دو سال تک چک شیر دیگ لوٹی۔ مدت، پے زیادہ دیگ، اجازت نہے۔ عوام، تہائے گپ مشہور، جنک، چک دو سال بچک، چک دو نیم سال تک شیر دیگ بی، یک غلط خیال، شیر، جنک، چک دو سال تک۔ نکاح حرام بیک، واسطہ $1/2$ ڈھائی سال، یعنی کہ اگا دو سال، ہر ند شیر دیگ حرام بلے اگا بھری سی، مطابق ڈھائی سال، تہا جنی آدم و تی یا دیگ، کسے اولاد، شیر دان تو، شیر والا چک، گوں جنی آدم، یگے اولاد، گوں نکاح، سیر سانگ حرام ناجائزی۔ اگا ڈھائی سال مدت، ہر ند شیر واریتت تو نکاح حرام نبی اگا چپ ڈھائی سال، ہر ند شیر دیگ جائز نہے۔

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَيْسَرًا وَرَوْدَوَانَةَ اللَّهُ شَاءَ سَرَاجَتْ نَازِلَ كَبِيرًا۔ (ابن عدي)

ظالم مات و پتءِ فرمانبرداری به لازمی

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ روايت، مطابق سردار، دو جہاں اے
صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمان عبرت نشان، کہ ہماکساوتی صحب مات و پتءِ فرمان برداری اے
تھا گوازینت انسان، خاطر صحب، سراجنت دروازہ چک بیاں۔

اگارو یکنائے یک، حیات بی تو نقطیک دروازہ چک لی۔ ہے وڑا گاکے و تی شپ روچ، عماں
پتءِ ناراً حَلَّی اور اللہ نافرمانی، تھا گوازینی ایے واسطہ صحبے سراہی جہنم، دروازہ چک بیاں۔ اگا
مات پتءِ یک، حیات بی تو یک دروازہ چک بی۔ یک مرد آدم، جسمت کاں اگامات و پت ظلم
بیکناں تو؟ نبی کریم ارشاد فرمائیں! اگامات و پت ظلم بیکناں! اگا ظلم بیکناں! اگا ظلم بیکناں!

(شعب الایمان ج ۷ ص ۲۹۰ حدیث ۹۱۷ دارالكتاب العلمی یروت)

محترم اسلامی برادرات! واقعی خوش بخت انسان کہ و تی مات پتءِ خوش و راضی کاں اور
بد بخت انسان کہ و تی مات و پتء زار کاں ایئے واسطہ دینا و آخرت، تھا صرف اور صرف
بر بادی است۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۳/۲۵، تھا ارشاد فرمائیں۔

ترجمہ کنز الایمان: مات، پتء گونا شر
سلوک بیکنے۔ اگا تھی دیماروں یا یک، پیراء
رسی تو اف یک مکاں اور ندھی سخت کلامی
بیکاں۔ اشان گوں ادب احترام، پے ابر
بیکاں۔ اور اشانی خاطر عاجزی، بانزل نچ بیکاں
اور ہے دعا بیکاں کہ اے اللہ توء دوئینے سرا
رحم کرم بیکاں ہنچو کہ اشان مناکسانی، سنبھالتا
مزن کرت۔ تھی رب عَزَّوجَلَ بعض شر زانت
کہ تھی دل، تھا پے است،

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاٌ إِمَّا يَبْلُغُنَ
عِنْدَكَ الْأَنْكَبَرَأَحْدُهُمَا أَوْ يَكْلُمُهُمَا
فَلَا تَنْقُلْ لَهُمَا أُفِيٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٦﴾ وَ اخْفِضْ
لَهُمَا حَنَامَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيْنِي صَغِيرًا
طَبْكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : میں سر اباز درود و اے پیٹک شماۓ میں سر ادرو وو انگ شماۓ گناہاں پر مغفرت اسیں۔ (جامع صغیر)

کسانیءِ مات بی اولادی گت مسے برداشت کان

محترم اسلامی برائیاں! اگو سنگے قرآنی آیت، ؎ تہامات پت، ؎ گونا شرء سلوک، ؎ حکم دیگ بوت۔ خصوصاً جب ؎ بزرگی ؎ رشائ توشتر خدمت، ؎ حکم بی۔ یقیناً مات پت، ؎ بزرگی اولاد، بعض اوقات مز نین امتحان و آزمائش، ؎ تھا دور داں۔ بزرگی و بیماری، ؎ وجہ بعض دفعہ بسترو گندل، ؎ تھا حاجت (یعنی گت و مس) کنان۔ ؎ گندگی، ؎ وجہ چے زیادہ تر اولاد بیز اربیاں۔ بلے یاد کئے کہ، ؎ حالت، ؎ تھا اشانی خدمت خیالداری بعض ضروری، ؎۔ کسانی، ؎ میے مات و پت، ؎ بی میے گت، مس صاف کت بلکہ وقی خوش، ؎ دل، ؎ گوں برداشت کت کدی بیزاری، ؎ اظہار نکت، ؎ بڑھا پا اور بیماری، ؎ وجہ طبیعت و مزانج، ؎ تھا چڑھا پن، فضول ابر بلا وجہ اکل ھوکل کنان بلا وجہ کسانی مز نین مسئلہ پیدا کنان حد، ؎ پچے زیادہ پریشان کنان بلے اولاد، ؎ صرف اور صرف صبر صبر صبر اور ادب تعظیم کنگ لوئی۔

مات پت گوں بد تمیزی کنگ در کنار اشان فی اگا ف به نہ کننی، بد تمیزی وجہ چوں میں کہ زندگی بھر، ؎ پکھتا وابی، ؎ وڑا دنیا و آخرت تباہ، بر باد بہت کان۔ مات پت رنج تکلیف دیگا چے اشیائی نافرمانی وجہ چے دنیاء تھابی اولاد ذیل خوار بیاں اور آخرت، ؎ عذاب، ؎ علی حقدار بی۔

دل د کھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا

ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا (وسائل بخشش و ۷۷)

ہرے وڑے مردگ

حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ یک تبع تابعی بزرگ بوت۔ ؎ بزرگ، ؎ ۱۳۸۶ھ وفات کوت۔ گئی کہ ما یک بیر، یک محلہ، چے روگا بوجگاں۔ محلہ، ؎ تھا یک قبرستان، ؎

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میں سر اباد دو دو نے پیک شایے میں سر اباد دو دو اگ شایے گناہاں پر مغفرت ایتیں۔ (جامع صغیر)

بوتاں۔ ء قبرستان ء تھا یک قبرء عصر نمازء رند چج بوت اور ایسے تھا چھ ہے وڑے یک مردگء در کپت کہ ایسے سر یعنی دم حمرے وڑے اور دیگے پوراء جسم انسانی وڑے بوتا قبرء چھ درء یگے رند سپہ سارندء مردگء حمرے وڑے تو ارجاں پداء قبرء تھا راو اور قبر دپ بندبی۔ یک پیر زالء ہمدانڈوک و تی دستء گدء رونچء گونان مشغول جائکے۔ دیگے یک جنی آدمء منا جست کاں کہ توء پیر زالء چار گاہء ترا معلومء کہء پیر زال کئیں؟ مناچ خبر ہے تو بگش کہء چے معاملہء ء جنی آدم گشی کہء قبر والا مردگء پیر زالء چکء۔ یک شرابی انسانی بوت۔ شپء وقتء جبء لوگء اتنا تو اشیاء مات و تی چک نصیحت، واعظ کت، خدائے ترسء پیدا کت اورء ناپاک چجزء ورگا چھ منع کتا! بلے اشیا و تی ماتء نصیحت، واعظء کوئی بی پیر دا نکوتا۔ الثا ہے جواب داتگء کہ تو ہر چھ حرے وڑے چو شورو جاک کنگاۓ۔ ایسے رندء شرابی انسان عصر نمازء رند وفات کاں۔ ہمارونچء چھ پتے مردپی تک عصرء رند اشیے قبرء دپ چکبی اورء ہے پھم حرے وڑے تو ارگشی ایسے رند قبرء دپ بندبی۔

(اتر غیب والر حبیب للمنزري، ج ۲ ص ۲۲۷ حدیث ۱۷ ادارا لکٹب العلمیہ بیروت)

مات پتء نافرمان انسانء عبادت قبول نبی

محترم اسلامی بر اتاں! اللہ دربارء توبہ کنگ لوٹی و تی حقء تھا خیر و عافیتء سوال بی کنگ لوٹی۔ اورء بی معلوم بیگ لوٹی کہ مات پتء دلء تاپینگ چکا عظیم گناہء اور گناہء سزا دینا ہے تھا بی ملی اور قیامتء بی گناہء بعض سخت سزا ملی۔ حدیثء تھا استء کہ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ: یعنی قبرء عذاب حقء۔ (نسائی، ص ۲۲۵ حدیث ۱۳۰)

بعض اوقات ہے منظر دنیا اندر بہ ظاہر بیان تاکہ مردم اشیا چھ عبرت حاصل بکاں۔ مات و پتء نافرمانی و بے ادبیء متعلق یک سوالء جوابء تھا اعلیٰ حضرت امام الہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ السلام فرمائیں کہ پت

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم : کے میں سر ایک درود و انہائی خطریک تیر اتر اجر لکھا گئی اور یک قیادت احمد پہلا برابر است۔ (عبد المرزاق)

؎ نافرمانی مطلب اللہ نافرمانی کنگ اور اشیے زار کنگ مطلب اللہ زار کنگ۔ انسان اگاہ وقت مات پت خوش و راضی بیکاں تو اولاد واسطہ جنت بت کناں اگاہ زاہر بیکاں تو ہے مات پت اولاد واسطہ دوزخ بت کناں۔ انسان کوئی بی فرض، نفل، نیک عمل قبول بت نکاں جب تک پت راضی نبی۔ آخرت عذاب تو جیاتی عنده۔ ایاچے پیشتر نافرمان اولاد حیاتی، تھا ہزار مصیبت و آفت، تھا گرفتاری۔ وڑعنافرمان اولاد اپنے ہے ترس معاذ اللہ کجا مر آگے ساعت کلمہ ونگ نصیب می۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۳۸۵)

کافرمات پت عربی شریعت دائرہ ہما ادب احترام نیک سلوک حکم۔ دعوت اسلامی اشاعیتی ادارہ مکتبۃ المدینہ لکھنگ کتاب بہار شریعت جلد ۲۵۲ ص ۲۵۲ تھا صدر الشریعہ، بدرا الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالمگیری (کتاب) ھوالہ نقل کرت فرمانت کہ: اگر کسے مات پت کافر است اور گشاں کہ من مندر تھا برتر شانہ بروئی اور اگر مات پت مندر شا آنہ لوٹاں تھے بیار اشائ۔ (فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۳۵۰ دار الفکریہ د)

مات پت راز ادیای نوگ

ہم کے کہ دہمی مردمان مات سر از اہ دینے عادی است، ہم باز خرابیں مردم است۔ دعوت اسلامی اشاعیتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مطبوعہ ۳۱۲ صفحات سرا مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۱۹۵ تھا صدر الشریعہ، بدرا الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم ع بہر نشان فرمان کے عظیم گناء کہ انسان و تی مات پت زاہ دان۔ مردمان جست (پول) کت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم چ کسے و تی مات پت عربی کدی زاہ، بد کاں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم فرمائی کہ انسان

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم : کے میں سر اتابہ تہارو دکھا اکرچے میں نام کتاب تہابی فرشتہ اشی واسطہ استغفار کنا۔ (طرانی)

وئی مات پت زاه وڑا داں کہ یک انسان دو میں پت زاه داں تو جواب دو میں بی ایسے پت زاه
داں جب یک دو میں پت زاه داں تو دو میں بی جو اپنے وئی زاه جواب داں۔ (مسلم شریف ص ۷۰)
حدیث ۱۳۷؎ حدیث عپاک نقل کنگے رند حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی فرمائی کہ
ہما بو تگال گپ ایمانی سمجھے چے در بوت کہ کسے وئی مات پت پرچے بعض شر گپ
وضاحت کت کہ اشیا چے زال وارینگ اور ہما وقت کہ بعض ناداں وئی دپ گوں وئی مات
پت زاه دیاں اشیاں کم ابی لج ونگ نگری۔ (بہار شریعت)

آسِ ٹال گون لڑکخ والی

حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کت کہ جانے کائنات سردارے
دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کہ شب معراج من کم مردم آس ٹال گوں
لڑکسیا دیسغاں۔ ماجست (پول) کناں کے اے جبریل! مردم کیا؟ جبریل علیہ السلام
جواب داں کہ **الَّذِينَ يَشْتَمُونَ أَبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا** یعنی ہما مردم داں جو اشیاں
دینے اتہا توی مات پت زاه و بد کتے۔ (الزوج عن الکبار، ج ۲، ص ۳۹ ادار المعرفت یورڈ)

ہورہ (بارش) ترنس پ وڈے آس

منقول استیں، کہ ہما ساوی مات پت زاه بد کتے ایسے قبرے تہا ہورہ ترنس پ وڈا آس
آسمان اپنے رپے۔ (ایضاً ص ۱۳۰)

قبر پالیگ پروشی

منقول استیں، کہ جب مات پت نافرمان اولاد قبرے تہارو تو قبر ایا ہما یا ہے رنگا زور داں ہما
حد تک کہ اشیے پالیگ پرشت پروش یک دیگر گوں اوار بیاں۔ (ایضاً)

فرمان مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: کے میں سر ایک واری درود پاک و انی اللہ ہماں سرا دا رحمت نازیل کرت۔ (مسلم)

جنتَ چے محروم

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کاں کہ نور دو عالم شہنشاہ نبوت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمان عبرت نشان ۽ کہ ۳ مردم جنت ۽ چے محروم بیاں۔ (۱) مات و پت ۽ نافرمان (۲) دیوث (۳) ۽ جنی آدم جو مردم آدم ۽ وڑو ۽ وٹ کت ۽

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

اگامات و پت یک دیگرے گوناں جنگ بیکاں تو اولاد ڇے کنگ لوٹی

میں آقا علی حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ السلام محبوب الرحمن فرمائیں کہ اگامات و پت یک دیگرے گوں زبان چلا کینا، جنگ کناں شانہ مات ۽ طرف داری کنگ لوٹی اور نہ پت، ہے رنگا جبی کہ مات ۽ محبت و شفقت ۽ پت ۽ گوں بد تمیزی، سخت کلامی، بے ادبی چم ۽ گوں چم ملائیک، ھم جوابی کنگ۔ ۽ وڑو درست (کل) کار حرام است اور اللہ عز و جل نافرمانی بی۔ اولاد اے رنگاوی مات پت ساتھ دلخ ہر گر جائز نیست ۽۔ دوئیں اولاد واسطہ جنت و دوزخ ۽۔ اگر شاوتی مات پت تکلیف داساتہ دوزخ روے شما ۽ وڑو کار ۽ چے اللہ و تی پناہ دا۔ اللہ پاک نافرمانی اندر اکسی بہ پیروی مکن۔ مثال: اگر مات گشی تتوتی پت تکلیف دے اور اولاد گشی من و تی پت تکلیف نہ دیاں مات گشی من ناراضی بیاں، اے صورت اندر اگر مات ناراضی بی تہ بھلے بی شاہر گزارے معاملہ تہماں ٹوک نہ منے۔ ادب و تعظیم ۽ تقسیم کاری ۽ متعلق بعض و شے گپ ۽ جناں کہ خدمت ۽ تہماں ۽ او لین درجہ بدے اور ادب تعظیم ۽ تہما پت ۽ درجہ بلند ۽ کہ ہے پت مات ۽ بی حاکم و سردار ۽۔ (اخوذ از فتاویٰ رضویہ ج ۲۳۹ ص ۴۲۳)

فرمانِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: کے میں سر ارواد و آنگ شمشتاہما بیاں جنت و رستہ شمشتا۔ (طرانی)

اگرمات و پت ریش، سانگ، حکم کنان ته شماء حکمنه منے

علوم بیسا کہ اگرمات و پت ناجائز حرام کارء حکم بدیاں تہ شما اشانی ٹوک بلکل نہ منے۔ ناجائز حکم عنی تابع اری کئے تو شما گنہ گاربئے۔ اگرمات و پت در غیس ٹوک کئے حکم بدال یا ریش سانگ یا یک مشت اپے کم کنگ، بگشاں اشانی اے حکم، تابع اری بالکل کنگ نلوٹی۔ ہاں اگاء وڑے حکم، تابع اری کت تو اداد اللہ نافرمان ضرور گنگ بئے۔ ہے وڑا اگرمات و پت، طلاق بتا اور مات ہزار ضد بیگاں گبریعی کہ تو قی پت، گو تعلق مدار ورنہ مادتی شیر، معاف نکتا۔ ادابی مات، حکم، تابع اری کنگ نلوٹی، شما پت گوں تعلق بہ دار اور ادب و تعظیم گوں خدمت بی کنگ نلوٹی۔ مات و پت، رشتہ اگاپے ختم بوتاں بلے اولاد، رشتہ مات و پت، واسطہ دوئیں رشتہ برابر اور دوئیناں خدمت ادب و احترام اولاد، واسطہ ضروری، اور دوئیناں حق برابر است۔

اگرمات و پت رنج، دل، وفات بیکناں توچے کنگ لوٹی

اگرمات و پت اولاد اپے زار رنج دل، وفات بکناں توءمات و پت، واسطہ خوب دعاء مغفرت کنگ لوٹی کہ دعاء مغفرت مرحوم مات و پت، واسطہ یک مز نیں سوغات، اشانی واسطہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کنگ لوٹی۔ اولاد، طرف اپے یکل عنی تجھے ملگ اپے امید، کہ مرحوم مات و پت خوش و راضی بیاں۔ دعوت اسلامی، مکتبۃ المدینہ کتاب بہار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۱۹۷ تھا سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ اگا کساوی مات و پت، حیاتی، نافرمانی کتا تو ضروری اکہ وفات، رند، مات و پت، واسطہ مدام دعاء مغفرت بیکاں۔ دعائے کنگ، وجہ اپے اللہ عَزَّوجَلَّ، اولاد، فرمانبردار اور نیک، اولاد، تھا شمار کنت۔

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : کے کرائیں ذکر بیسا اور ایامیں سرا درود نہ اتنا تحقیق ہابد جنتی۔ (اہن سنی)

مکتبۃ المدینہ ء جوڑ گنگے رسائل و ق توفیق مطابق خرید کنے ایصال ثواب نیت گوں تقسیم کئے۔ اگا شادل لوٹی کہ شناوتی والدین ایصال ثواب خاطر رسائل یا کتاب رایانی نام یا پتہ لکھتے شما مکتبۃ المدینہ گوں رابطہ کنے۔ (شعب الایمان ج ۷ ص ۲۰۲ حدیث ۷۹۰۲)

مات و پتے قرضہ ادا کنے

سرکار نادر حَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرمائی کہ اگر کساوی مات و پتے وفات ۽ رند جائز قسم پورا کت دیگر اس پچے ذریگے قرض ادا کت۔ دیگر اس پچے وقی مات و پتے زادہ نورانیت اللہ ۽ بارگاہ ۽ وڑے اولاد فرمانبردار گنگ بی اگر پچے وقی زندہ تھا اشیانا فرمائی کتے ہے وڑے اگا کساوی مات و پتے وفات ۽ رند ناہی اشانی جائز قسم پورا کت ۽ اور ناہی ذریگے قرض یعنی (وام) ادا کت ۽ اور دیگر اس پچے وقی مات و پتے زادہ بدوار یتت ۽ وڑے اولاد اللہ ۽ بارگاہ نافرمان گو گنگ بی۔ اگا پچے اشیاوی مات و پتے عز زندہ فرمانبرداری کت ۽

(لمجم الادب للطبراني، ج ۳ ص ۲۳۲ حدیث ۵۸۱۹ دارالكتب العلمية بيروت)

جمعہ روح مات و پتے قبر سار و گئ ثواب

منے و شے نبی، نبی کریم حَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرمائی کہ ہما اولاد جومات و پتے یا دو نکیں قبر ۽ سراہر جمعہ ۽ روح جماعتی ۽ حاضری ۽ واسطہ (یعنی دعا فاتحہ ۽) رو اللہ عَزَّوجَلَّ اشیے گناہ امعاف کاں اور اشیا مات و پتے ۽ فرمانبردار اولاد نئی تھادا خل کاں۔

(نادر الاصول للحییم الترمذی ص ۷۶۹ حدیث ۳۰۴ مشق)

مدنی چینل ۽ بھار

محترم اسلامی براتاں! مات و پتے نافرمانی اور بے ادبی ۽ شہ حفاظت اور اشانی اطاعت و فرمانبرداری ۽ جذبہ پیدا کنگ ۽ خاطر وقی دل ۽ تھا عشق رسول حَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۽ چراغ

فرمان مصطفیٰ حصل اللئحال علیہ وہی سلام: کے میں سرائج داہواری اور شام داہواری درود و ایشی قیامت عروج شکس شفاقت لی۔ (صحیح البراءہ)

محترم اسلامی بر اتاب! بیانے دعوت، اسلامی ماحول یک مدینی بھاراء گوش دارے میر پور نمبر ۱۱ ڈھا کہ بنگل دلش عیک مبلغ دعوت اسلامی برات گشی کہ ما یک رند یروگ، بیگان راه، سرا یک مرد آدم منا گوں ملاقات کاں اور منا گشی کہ ترا معلوم، کہ ما وقی چک زال پجیا کجا رو گواں؟ اسلامی برات گشی کہ مرد آدم وقی سوال، جواب، دعوت داں اور، گشی کہ ما وقی چک زال، گوں وقی زار کنگل مات و پت، کر ارواگواں۔

اصل گیا ایشے کہ ماوئی مات و پتءَ گوں جنگ کت اور لوگ ءچے در کپت گوں۔ دعوت
اسلامی مدنی چینل ءتہامات و پتءَ حق ادب و احترام ءچے متعلق واعظان گوش دارگ ءبر کت
ء مناء احساس بت کہ ما بعض غلط بو تگاں ماوئی مات و پتءَ نافرمانی کتا اور ءیک عظیم گناہ اء۔
الہند ماوئی ء گناہ ء معافی ء واسطہ جن چگاں گوں علدی جلدی مات و پتءَ خدمت ء خداوندو گواں۔
اللہ مدنی چینل ء شب و روح ترقی و کامیابی نصیب بپکاں۔

أَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

راہِ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف
حلے بس اک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم : کے کرامیں ذکر بیت اور اشیائیں سرا درود نہ و اتنا یا منا گوں جھاکت۔
(عبد الرزاق)

یا خدا ہے الٰجٰا عطار کی
سنیت اپنا کمیں سب رکار کی

صلوٰۃ علی الحبیب! صلی اللہ تعالیٰ علی محمد

مات و بدعاچے پا دپرشت

محترم اسلامی بر ایام! شما گوش داشت مدنی چینل ہے بر کست۔ مدنی بہار ہے تہامات و پت ہے حق اور ادب و تعظیم ہے ذکر بہت حقیقت کہ مات و پت ہے حق بعض گران ہے مات و پت حق ادا کنگ بعض مشکل ہے انسان عمر بھر ہے جہد و کوشش بیکاں کہ مات و پت ہے خوش و راضی بیکاں اور اشانی نارا ضمکی ہے پچے اللہ ہے پناہ زورگ لوٹی۔ ہما کس کہ وقی مات و پت ہے ایذا و تکلیف دال ہے آخرت ہے عذاب ہے مستحق بی ہے دنیا ہتابی ضرور ضرور ذیل و خواربی۔ چنانچہ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کنت ہے کہ زمخشری (جو کہ معززی فرقہ ہے ایک مشہور عالم بوت) اشیے یک پاد ہے نبوت یعنی کہ ہے عالم بے پاد بوت۔ مالک ہے بے پاد وجہ جست (پول) کت تھے عالم جواب دا کہ ہے منی مات ہے بد دعا ہے نتیجہ ہے قصہ ہے وڑاء کہ کسانی ہے یک مرگ ہے منادست کپی ما ایتے پاد ہے یک کسانی سادہ (بند تھی) گوں بند سا ایتے رند آنکیا ہے مرگ دست ہے چے یہاں بیال کاں یک دیوال ہے کنڈہ وہ چیر داں صرف ہما کسانی ساد (بند تھی) درالحرکنا مرگ ہے کشتنگ ہے واسطہ ہے سادہ چکاں مرگ تو درکنے پر بے چارگ ہے پاد پر شی ہما کنڈہ یہاں بی۔ منی مات ہے بے زبان ہے در دن اک اور تکلیف والا منظر دیتا ہے وجہ بد دعا کاں کہ! انچو کے تو ہے بے زبان ہے پاد پروشن اللہ بیکاں تھی پاد بی ہے وڑا کپ بی۔ کے مدت ہے رند معلم دین حاصل کنگ ہے خاطر بخار شہر ہے نیمیکا سفر کناں سفر ہے تہاوی سواری ہے کہاں کپگ ہے چے پاد بعض خون ریتی گی

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ : کے میں سراجِ درود و امنی میں قیامتِ روچا اشیٰ شفاعت کرتا۔
(کنز العمال)

بخارا شہر، رساں بعض علاج و معالجہ کنائے پر پاد، درد تکلیف کم نبی۔ از گلیشتہ تکلیف، وجہ مناوی
پا دبر یعنیگ کپی، وڑا منی مات، عبد دعا بقول بیسا۔ (حیۃ الحیوان لیکبریج ص ۲۷۳)

مات و پت دست و پاد کپے معافی لوٹے

محترم اسلامی برادرات! اگا شمے مات یا پت یا دوئیں شمارا گوں دل گراناء تو پیشتراء پے
پیشتراء مات و پت دست پاد کپے گروے معافی طلب یکنے۔ معافی لوٹگ اپے اولاد سر
جال نبی۔ مات و پت جائز مطالبات پورا کنگ لوٹاں۔ مات و پت خدمت و تنظیم خوش را
ضی کنگ اپے حیاتیاء تھا ہر ہر مصیبت۔ پریشانی دور بیان اور آخرت ابی فرمانبردار اولاد اللہ
ء حکم کپے کامیاب و کامران بی۔ مات و پت حقوق، مزید معلومات خاطر دعوت اسلامیاء
اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، دو عدد V.C.Ds ضرور گنداء (1) ”ماں باپ کے حقوق“ اور
(2) ”والدین کے نافرمانوں کا انجام“۔

دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا	ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا
کینہ مسلم سے سینہ پاک کر	اتباعِ صاحبِ ولاک کر
یا خدا ہے النجا عطار کی	
	سنتیں اپنا عین سب سرکار کی

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ**

محترم اسلامی برادرات! ماوتی بیان، ختم کنگاپے پیشتر سنت، فضیلت اور کے آداب بیان
کنگے کوشش کنائے توجہ، سراگوش دار، سرکار صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرمائیں کسامنی
سنٹ، گوں محبت کت ایامنا گوں محبت کت ہما کسامنا گو محبت کت جنت، میں پجیابی۔
(ابن عساکر ص ۳۲۹ دار الفکر بیروت)

فرمانِ مُصطفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: میں سر اور وہ بازو نے اے شاواسط طہارت ۱۰۰ (ابو یعنی)

”مدی نہ راہِ مسافر“ ۱۵ حروفِ نسبت و روگ ائیگی ۱۵ است اور آداب

- ۱۔ پارہ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۷۳ تہارب تعالیٰ ارشاد فرمائی کہ **وَلَا تَنْشِفْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغْ الْجِبَانَ طُولًا** ترجمہ کنز الایمان: زمین اے سرا اکڑو خیں مرد (یعنی کہ غور مکاں) بے شک زمین چیر جانی۔ ہر گز تو مرتبہ و رتبہ اے وجہ کوہ شدے بڑزندہ ہشت ہے۔
- ۲۔ دعوتِ اسلامی اشاعیتی ادارہ مکتبۃ المدینۃ کتاب بہار شریعت حصہ ۱۶ ص ۸۷۴ تہار سول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمائی کہ یک مرد آدم دو چادرے تھا مغرور، متکبر انه اندازِ روجا بوت۔ تو زمین اے وقتی تھاء مرد آدم زرت اور قیامت تک اے ہے وڑع زمین اے تھار وان اے۔
- ۳۔ سرکار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کدی کدی صحابہ کرام اے ہمراہ داری وقت، وقتی دست مبارک اے تھا ایامی دست اے گوں دست داتا۔ (المجمل الکبیر للطبرانی، ج ۷ ص ۲۷۷)
- ۴۔ رسول اکرم نور مجسم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے وڑا راہء شست اے تو انچوں معلوم بت اے کہ آپ ﷺ یک بلند مقام اے پچ جلا ایر پیدا کے۔ (اشمائی الحمدی للترذی ۱۱۸ رقم ۲۷۷)
- ۵۔ تانبہ، پتل اور سورے (تگلو) ہارا دیگر اس پیش در رگ اے نیست اے گوراہ کنگ اے رند مغروہ ائے وڑ روگ بے وقوف اور حمق، ناداں مردم ائے، کارے سورے (تگلو) بتگ اے کوئی بی چز مرد آدم اے واسطہ حرام ناجائز ہے۔
- ۶۔ ہر وقت سڑک اے کنارہ پچ در میانہ رفتار روگ لوٹی نہ زیادہ تیز کہ مردم گشاں اے کجا رہناوار گیں اور نہ ہی زیادہ سست روگ لوٹی کہ مردم گشاں اے بیمارے۔ امرد یعنی کم عمر اے

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰیہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ: شاہر ہند ابہ استے میکن سرا درود دوانے شماۓ درود منار سی۔ (بلبانی)

بچک یا بے ریش و بے بروت کسانی بچک ء گوں شہوت ء نیت ء دست ملائک یا بغل کنگ
حرام و گناہ ء اور جھنم تہاب رغ وائی کارئے۔

۷۔ راہ روآجی بلا وجہ ادا اودا عجیب و غریب اندازء چارگ خلاف ء سنت ء بلکہ روآگے دوران
چشم جال اور باو قار طریقہ سر اروگ لوٹی۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ الرحمان عید
نماز ادا کنگ واسطہ شت، جب واپس آتکا تھا اشی لوگی جست کت مرشی تو باز جنی آدم
دیسغاں؟ اے بزرگ ﷺ خاموش بیت، جب اشی لوگی باز اصرار کت تھا اشیا
فرمان نتا لو گا شہ روگے رند اور واپس انگے تک من صرف وتنی پادانی مژدغانے سرا دیسا۔ (تاب
الورع مع موسوعہ امام بن ابی الدین احصی ۲۰۵) سُبْحَنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! اللَّهُ نَعَمْ دوست راہ سرا آنکے روگے
دوران بلا وجہ خاص طور شئے موقع تھا ادا اودا بلکل نہ چارت۔ یعنی چوں مبی ہاچیز شرعا
اجازت نیستے ہمائی سرا نظر کپی۔ اے بزرگ ﷺ تقوی اسٹ۔ مسئلہ اے
است کہ اگاکے نگاہ جنی آدم سرا بے اختیار کپی اور اے وتنی نگاہ جال کن تھا گناہ گار مبی۔

۸۔ دیگر انی کھڑکی یا گلیری ء نیمگا بلا ضرورت چارگ نلوٹی اے مناسب نئے۔

۹۔ جزغے یا سیڑھی، اسٹا جا حلابید انگے وقتاے احتیاط کئے کہ جتیانی آوازنہ بے کہ منے آقا
صلی اللہ تعلیٰ علیہ وآلہ وسلم جتیانی آواز اور پاداں گون دھمکنے آواز پسند نئے۔

۱۰۔ دو جنی آدم ء بچی ء پچی پے روگ نلوٹی کہ حدیث ء تھا اشیے ممانعت ء۔

۱۱۔ راہ روآجی یا مجلس و محفل ء تھا مردم ء نی فیکر پونز صاف کنگ۔ گوش صاف کنگ تک
جنگ، وتنی جانے میل صاف کنگ یا وتنی شرم گاہ ء نیمگا دست ء بارگ نرچینگ ء وڑے
درست (اے) کارا دب و تہذیب ء خلاف ء۔

فرمانِ مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ : کے میں سراواہ مرتبہ درود اتنا اللہ آئی سر اصدر حمت نازل کرت۔ (طبرانی)

۱۲۔ بعض کے عادتِ راہ سرا کپٹنگے ہر چڑھ لگت جاں رو۔ یک غلط اور غیر مہذب طریقہ۔ وڑے حرکت پچ پا دز خمی بی دوی گپ ہمش کر لکھنگ اخبار پیکٹ، ڈب، بو تل لگت جنگ بد اخلاق بد عادت۔

۱۳۔ ہما چڑھ جو شریعت خلاف ہنہ راہ رواجی چڑھنی خیال داری کنگ لوٹی مثلاً سڑک پار کنگ وقت زیر اکر اسنگ استعمال۔

۱۴۔ ہر نیمگا گاڑی روگ آئیگا اپیاں ہمانیمگا چارگ سڑک پار کنگ لوٹی۔ اگا تو سڑک نیمگا اور گاڑی اپید اغاں تہ شنا ادا اودانہ رنبے بلکہ ہما ہند اجکے اے جان سلامتی یک ممکن طریقہ۔ ریل گاڑی آئیگا وقت یاریل گاڑی ووت پچے دور خیال کنگ مطابق جلد بازی وہ تھاریل پڑھی پار کنگ جان واسطہ نقصان ثابت بی۔ وڑے حرکت اور جلد بازی وہ تھے انسان جان بی ضائع بت کاں۔ بعض وقت وہ بی بث کاں کہ بے خیالی و جلد بازی وہ تھے کشنگ مبی ہے گوناں پچے بت کاں فکر مارا کنگ لوٹی۔ لہذا ریل گاڑی آئیگا وقت یاریل گاڑی ووت پچے دور خیال کنگ اور ہے دوارن پڑھی پار کنگ حماقت وہے و قوفی اور جان خطرہ۔ ہما جاگب پڑھی آئیگا قانونی پابندی اودا عمل کنگ ہے وہی واسطہ بہتر مارا شمارا قانون خلاف ورزی کنگ لوٹی۔

۱۵۔ عبادت تھا طاقت و قوت زورگ واسطہ اگاہ بت کاں تو مدام پونا گھنٹہ ذکر درود وہ گوں اور پیدل روگ آئیگا لوٹی کہ اشیا پچے انسان صحمند بی، روگ آئیگا طریقہ وڑاء کہ شروع امنٹ تیز روگ لوٹی پدا ۱۵ امنٹ درمیانہ انداز روگ لوٹی ایسے رند ۱۵ امنٹ پدا تیز پادع

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰیہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ : کے کامیں ذکر میسا اور ایامیں سرا درود و امتانہ ہمارے دنیا تھا کنجوس ترین امر دے۔ (ترغیب و تہیب)

گوں روگ لوٹیٰ وڑے بی۔ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** اے طریقہ گوں ہاضمہ درست بی اور دل ۽ درست بیماری اور دیگر بی بعض ۽ بیماری اء شا **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** حفاظت بی۔

اینگے بعضے سنت سکھنگ ۽ واسطہ مکتبۃ المدینہ ۽ جوڑ کنگی دو کتاب (۱) ۳۱۲ صفحات کتاب بہارِ شریعت حصہ ۱۶ اور (۲) سنتیں اور آداب حدیثیت حاصل کئے۔ اردو زبان ۽ تھا موجود است ضرور اے کتاباں وانے۔ دعوتِ اسلامی ۽ مدنی قافلہ ۽ تھا اسلامی بر اساس گوناں سفر سنت دنی تربیت یک بہترین ذریعہ۔

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو^۱
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو^۲

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!



اے رسالہ وانے دو ہمی کسے بہ دینے

سیرے یا غنی تقریب، اجتماعات، عرسے اور جلوس میلاد تھا مکتبۃ المدینہ ۽ شائع کنگی رسائل اور مدنی پل سرا مشتمل پھلفٹ تقسیم کئے ثواب کمائے، مردا ثواب نیت گوں تحفے اطور بہ دیتے، وقی دکانانی سرابہ رسائل ایر کنگے معمول بنائے، اخبار والا یا چکانی دستا وقی محلہ تھا ہر لوگا یک عدد رسالہ ہر ماہ مدنی پل پھلفیٹ ذریعہ نیکی دعوت ۽ دیتے۔

نیک نمازی بیغ خاطر

ہر چھیسے (جمعہ ا شپ) شپ نماز مغرب شہ رند شماوی شہرے دعوت اسلامیء
ہفت روزہ سنتانی اجتماع، اللہ رضا خاطر شریں شریں نیت گوں سچے شپ گزوائیں۔
سنتانی تربیت پہ عاشقان رسول پجھا (ہمراہ) ہر ماہ سے روچ مدنی قافلہ تھا سفر اور۔ ہر
روز فکر مدینہء ذریعہ مدنی انعامات ارسالہ پر کئے وہی علاقہء عز میں دار کر اجع کنگ
معمول بنا نگ لوثی۔

میں مدنی مقصد: مناوی اور سچے دنیاۓ مردمانی اصلاح کوشش کنگیئے۔
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وہی اصلاح خاطر مدنی انعامات سرا عمل اور سچے دنیاۓ مردمانی
اصلاح کوشش خاطر مدنی قافلہ تھا سفر کنگ لوثی۔ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -



ISBN 978-969-631-534-6



0125267



فیضان مدینہ، مجلہ سوداً گران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net